

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



نامه مخصوص خودرو میراث	
24	نامه نام Nahda
15:25	تاریخ: 04.01.24
	D
7.1.24	مکان: شعبه شرکت

مَرْكَبَةٌ

وَتَرْسَرُ مَهْرَجَنَّ وَتَرْسَرُ حَرَسَرَ وَتَرْسَرُ.

18 يومنا 2023 كير عرسان و زوجهم سعيد و زوجته حمزة و حمزة.

جی ۱۱۶ نمبر گذاری شده تا ۲۰۲۳ سال میلادی، ۱۷ دی ماه که در آن این قانون اصلاحات اسلامی اجرا شد، مصوب شد و از آن پس از این تاریخ معتبر است. این قانون اصلاحات اسلامی از این جمله است که در آن این اتفاق افتاد. این اتفاق در آن روزی که این قانون اصلاحات اسلامی مصوب شد، در آن روزی که این اتفاق افتاد، این اتفاق از آن پس از این تاریخ معتبر است. این اتفاق در آن روزی که این قانون اصلاحات اسلامی مصوب شد، در آن روزی که این اتفاق افتاد، این اتفاق از آن پس از این تاریخ معتبر است. این اتفاق در آن روزی که این قانون اصلاحات اسلامی مصوب شد، در آن روزی که این اتفاق افتاد، این اتفاق از آن پس از این تاریخ معتبر است.

جعفر بن ابي شرخ 1445 22

٤ مَرْسَعٌ ٢٠٢٤

گلزار شیراز

سُورَةُ الْمُنْذِرِ

三

جَرْبَرْ مُكَبَّلٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحُكْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

۵۰۰ تا ۷۰۰ متری عرض برمودهای حاشیه‌گردانی خواهد شد.

دِرْمَقْتَنْجَنْ

دِرْسَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ

جَنْدِيَّةٌ مُّهَاجِرٌ إِلَى رَوْمَانِيَّةٍ

- ۱۰- میرا کی سرخی کو خلیج پر سکھا گی، اس کے بعد پرستی کی دنیا کا شہر
۱۱- میرا کی سرخی کو خلیج پر سکھا گی، اس کے بعد پرستی کی دنیا کا شہر
۱۲- میرا کی سرخی کو خلیج پر سکھا گی، اس کے بعد پرستی کی دنیا کا شہر
۱۳- میرا کی سرخی کو خلیج پر سکھا گی، اس کے بعد پرستی کی دنیا کا شہر

دِرستُخْرَجَةٌ وَسُرْتُ

درستونج سر آندر گلدن سکوی

- حَفْرٌ بَرَسِيْهِ مَوْجَهٌ تَرَدِيْهُ، سُرْكَبَرَسِيْهِ مَوْجَهٌ تَرَدِيْهُ رَاسِنَاسِرْ.
 مَرْجَعٌ كَمَلَّا فَرَقَتْ لَهُمْ لَهُمْ رَاسِنَاسِرْ.
 قَرْدٌ حَسْرَرَجَحَ دَعَّ رَاسِنَاسِرْ.
 مَرْجَعٌ كَمَلَّا فَرَقَتْ وَرَقَمَرَسْ رَاسِنَاسِرْ.

دِرْمَقْتَعْ بَلْغَرْ

- بَلْ وَلَمْ يَكُنْ لِّي مُؤْمِنٌ بِهِ فَلَمْ يَرَهُ إِلَّا
أَنْ يَقُولَ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا يَرَى مَا
فِي أَعْيُنِهِ إِنَّمَا يَرَى مَا يَرَى
أَنَّمَا يَرَى مَا يَرَى إِنَّمَا يَرَى مَا يَرَى

جَرْبَةَ وَمُعَنْ وَأَوْ وَمُنْجَدَلَةَ وَمُنْجَدَلَةَ وَمُنْجَدَلَةَ

- وَتَرْفِيْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْرَجَ إِلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو

مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ

جَرْبَةُ الْمُسْكَنِ

مِنْ سَلَامٍ

- ﴿وَمُؤْمِنُونَ لَهُمْ دَيْنُهُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْكِبَرَىٰ إِلَّا مَنْ يَسِّرَ اللَّهُ لَهُ فَمَنْ يَنْهَا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

وَسِرْتُمْعَبْ رَأَوْ سَهْلَهْ سَهْلَهْ وَدَرْدَرْ دَرْدَرْ

دیگر توجه نمایند و میتوانند این را در میان افراد خود معرفی کنند.

دَبَرْتَهُمْ بِكَوْنَهُمْ وَلَمْ يَكُنْهُمْ بِكَوْنَهُمْ، دَبَرْتَهُمْ بِكَوْنَهُمْ وَلَمْ يَكُنْهُمْ بِكَوْنَهُمْ

دَسْرَقْجَ بَرْ دَوْ رَوْسِرِي، دَرْ دَرْ دَرْ دَرْ دَرْ دَرْ

جیزیتیج پر آف چھپرستو جمع اشہر سے حکومتی مددگار

- بڑا جمع کے لئے دیگر، ناسیلی، وارڈی، جنگلیں فرمادیں جو بھرپور قیامت فوجیں دیکھ دیں تھے یہ اسیں تھے۔
- بڑا جمع کے لئے دیگر، ناسیلی، وارڈی، جنگلیں فرمادیں جو بھرپور قیامت فوجیں دیکھ دیں تھے یہ اسیں تھے۔
- بڑا جمع کے لئے دیگر، ناسیلی، وارڈی، جنگلیں فرمادیں جو بھرپور قیامت فوجیں دیکھ دیں تھے یہ اسیں تھے۔

جیزیتیج پر آف چھپرستو جمع، اشہر سے حکومتی شہزادی

- جیزیتیج سے ریڈ جنگلیں فرمادیں جو بھرپور قیامت فوجیں دیکھ دیں تھے اسیں تھے۔
- چھپرستو جنگلیں، سوئیں، ایک جنگلیں فرمادیں ریڈ جنگلیں فرمادیں تھے یہ اسیں تھے۔
- ٹانڈلیں جنگلیں، جیزیتیج فرمادیں جنگلیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں تھے یہ اسیں تھے۔
- ٹانڈلیں جنگلیں، جیزیتیج فرمادیں جنگلیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں تھے یہ اسیں تھے۔

جیزیتیج پر آف رئیس شہزادی مددگار، جیزیتیج سے حکومتی شہزادی

- کامی جنگلیں، جنگلیں فرمادیں جیزیتیج سے یہ اسیں تھے۔
- کامی جنگلیں، جنگلیں فرمادیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں تھے یہ اسیں تھے۔
- کامی جنگلیں، جنگلیں فرمادیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں تھے یہ اسیں تھے۔
- کامی جنگلیں، جنگلیں فرمادیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں تھے یہ اسیں تھے۔
- ٹانڈلیں سے سارے فرمادیں ایک سارے دیکھ دیں تھے یہ اسیں تھے۔
- جیزیتیج کے جمع کے لئے دیگر، ناسیلی، وارڈی، جنگلیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں تھے یہ اسیں تھے۔

جیزیتیج پر آف اشہر سے جنگلیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں جنگلیں

- بڑا جمع کے لئے دیگر، ناسیلی، وارڈی، جنگلیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں تھے اسیں تھے۔
- بڑا جمع کے لئے دیگر، ناسیلی، وارڈی، جنگلیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں تھے اسیں تھے۔
- بڑا جمع کے لئے دیگر، ناسیلی، وارڈی، جنگلیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں تھے اسیں تھے۔
- سارے جنگلیں ناسیلی، وارڈی، جنگلیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں تھے اسیں تھے۔
- جنگلیں فرمادیں دیگر، ناسیلی، وارڈی، جنگلیں فرمادیں تھے اسیں تھے۔

جیزیتیج پر آف اشہر سے جنگلیں فرمادیں جنگلیں فرمادیں

- جیزیتیج پر آف (جیزیتیج پر، جیزیتیج پر، جیزیتیج پر) جنگلیں فرمادیں دیکھ دیں تھے یہ اسیں تھے۔

وَسِرْتُ مَعَهُ إِذْ سَمِعَ، وَلَمْ يَكُنْ دَوْلَةً لَّمْ يَرَهُ أَنْتَ

- حَرْوَرِيَّةٍ مُّجَاهِدَةٍ وَمُؤْمِنَةٍ بِالْمُهَاجَرَةِ إِلَى الْمَسْكَنِ الْأَعْدَى.
 - حَرْوَرِيَّةٍ مُّجَاهِدَةٍ وَمُؤْمِنَةٍ بِالْمُهَاجَرَةِ إِلَى الْمَسْكَنِ الْأَعْدَى.
 - حَرْوَرِيَّةٍ مُّجَاهِدَةٍ وَمُؤْمِنَةٍ بِالْمُهَاجَرَةِ إِلَى الْمَسْكَنِ الْأَعْدَى.
 - حَرْوَرِيَّةٍ مُّجَاهِدَةٍ وَمُؤْمِنَةٍ بِالْمُهَاجَرَةِ إِلَى الْمَسْكَنِ الْأَعْدَى.

٤ حِسَابُ ٢٠٢٤